

نیویارک کے باشندوں کے لیے COVID-19 کی ویکسینوں سے متعلق ضروری معلومات

COVID-19 ویکسینیں 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے نیویارک کے تمام باشندوں کے لیے دستیاب ہیں۔



آپ کو کچھ ضمنی اثرات محسوس ہو سکتے ہیں۔

عام ضمنی اثرات میں اس بازو میں سوزش یا سوجن جس پر ٹیکہ لگا تھا، سر درد، جسم میں درد، تھکاوٹ اور بخار شامل ہیں۔ ان ویکسینوں میں ایسا وائرس نہیں ہے جو کہ COVID-19 کا سبب بنتا ہو، نہ یہ آپ کے DNA میں تبدیلی لاتی ہیں اور نہ ہی ان سے آپ کو COVID-19 ہو گا۔



احتیاطی تدابیر جاری رکھیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ویکسینیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن ابھی بھی اس بارے میں مزید جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس کے پھیلاؤ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ فی الحال، ویکسین لگوا لینے کے بعد بھی، اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر ہی رہیں، دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں، درست طریقہ سے چہرے پر نقاب پہنیں اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں۔

ویکسینیشن سائٹ تلاش کرنے کے لیے nyc.gov/vaccinefinder ملاحظہ کریں یا 877-829-4692 پر کال کریں۔



COVID-19 کی ویکسینیں محفوظ اور مؤثر ہیں۔

COVID-19 ویکسینیں تیار کرتے وقت سائنسدانوں نے دیگر ویکسینوں پر کی گئی کئی دہائیوں کی تحقیق سے استفادہ کیا۔ یہ ویکسینیں بڑے کلینکل مطالعات کے عمل سے گزری ہیں، جن میں مختلف عمر، قومیت اور نسل سے تعلق رکھنے والے دسیوں ہزار افراد کو شامل کیا گیا۔ ان مطالعات میں دیکھا گیا کہ ویکسینیں محفوظ ہیں اور لوگوں کو COVID-19 کی شدید بیماری سے محفوظ رکھنے، اسپتال داخل ہونے اور موت سے محفوظ رکھنے میں بہت مؤثر ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (Food and Drug Administration, FDA) نے ان ویکسینوں کو ہنگامی استعمال کے لیے منظور کیا ہے۔



COVID-19 کی ویکسینیں آپ کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔

نیویارک کے 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام باشندے مفت ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے آپ کے پاس بیمہ موجود ہونے یا آپ کو اپنی ترک وطن کی حیثیت شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔



ویکسین لگوانے کے لیے سائٹ تلاش کریں۔

اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ یا جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں ان سے معلوم کریں کہ آیا وہ ویکسینیں لگوا کر دے رہے ہیں۔ ویکسینیشن سائٹ تلاش کرنے کے لیے nyc.gov/vaccinefinder ملاحظہ کریں یا 877-829-4692 پر کال کریں۔